

اگر کام پورا ہو جائے تو کیا نذر کو پورا کرنا ہوگا ؟

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

الاستفتاء کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اگر میں نئی کار لوں اور وہ کرایہ پر لگ جائے تو میں ہر ماہ 50 پاؤنڈ خیرات کروں گا تو اگر واقعی ایسا ہو جائے تو کیا اس پر ہر ماہ 50 پاؤنڈز خیرات کرنا ضروری ہیں۔ اور یہ کب دے گا؟

سائل انیس بولٹن انگلینڈ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي النُّورَ وَالصَّوَابَ

جی ہاں اگر نذر کو کسی ایسے کام پر معلق کیا جائے جس کے ہونے کی خواہش ہو تو کام ہونے پر نذر پوری کرنا ضروری ہے لیکن یہ شرط ہے کہ ایسی چیز کی نذر ہو کہ اس کی جنس سے کوئی واجب ہو مثلاً میرا یہ کام ہو جائے تو میں روزے رکھوں گا یا اتنی خیرات کروں گا وغیرہ۔

فَإِنْ عَلَّقَهُ بِشَرْطٍ يُرِيدُهُ كَأَنْ قَدِمَ غَائِبِي أَوْ شَفِي مَرِيضِي يُؤْفِي وَجُوبًا إِنْ وُجِدَ الشَّرْطُ اگر کسی نے اپنی منت کو کسی ایسی شرط کے ساتھ معلق کیا جس کے ہونے کا ارادہ رکھتا ہے جیسے میرا غائب آجائے یا میرے مریض کو شفا ہو جائے تو اگر شرط پائی گئی تو اسے پورا کرنا واجب ہے۔

درمختار مع ردالمحتار کتاب الایمان ج 3 ص 738

اور بہار شریعت میں ہے اگر ایسی چیز پر معلق کیا کہ اوس کے ہونے کی خواہش ہے مثلاً اگر میرا لڑکا تندرست ہو جائے یا پردیس سے آجائے یا میں روزگار سے لگ جاؤں تو اتنے روزے رکھوں گا یا اتنا خیرات کروں گا ایسی صورت میں جب شرط پائی گئی یعنی بیمار اچھا ہو گیا یا لڑکا پردیس سے آگیا یا روزگار لگ گیا تو اتنے روزے رکھنا یا خیرات کرنا ضرور ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کام نہ کرے اور اس کے عوض میں کفارہ دیدے۔

بہار شریعت حصہ 5 ج 1 ص 314 مطبوعہ مکتبۃ المدینہ

ہر یہ خیرات مہینہ کے پورا ہونے پر دیدے اور کسی وجہ سے نہ دے سکے تو زندگی میں جب مرضی خیرات کر دے۔

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری

Date: 1-7-2018

If one completes a certain task, is it necessary to fulfil the vow regarding it?

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

QUESTION:

What do the scholars of the Din and muftis of the Sacred Law state regarding the following issue: If someone makes a vow saying that if they were to buy a car and it got put on rent, then they will donate £50 to charity. So, if this actually turns out to be the case, then would he have to donate £50 to charity, and if so, when would he have to give it?

Questioner: Anas from Bolton, England

ANSWER:

بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب بعون الملّك الوهاب اللهم هداية الحق والصواب

Yes, absolutely. If a vow is made pending on a certain task which one actually wishes to do, then one will have to fulfil such vow. However, the condition is that the vow is in regards to anything which is among [at least] wājib actions. For example, if so-and-so task of mine gets completed, then I will fast or donate so-and-so amount, etc.

Just as it is stated in Radd al-Muhtār,

"فَإِنْ عَلَّقَهُ بِشَرْطٍ يُرِيدُهُ كَأَنْ قَدِمَ غَائِبِي أَوْ شُفِيَ مَرِيضِي (وَجُوبًا إِنْ وُجِدَ الشَّرْطُ"

"If someone made their vow based on a condition which they intend to fulfil, such as if I find my lost item, or if I get better or am cured from my illness, so if the condition is fulfilled, then it is wājib (necessary) to fulfil it [i.e. the promise]."

[Durr Mukhtār ma' Radd al-Muhtār, vol 3, pg 738]

It is stated in Bahār-e-Sharī'at that if someone promises something on a pending matter which they wish to go ahead with, for example, if my son recovers, or he returns from so-and-so foreign country, or if I get a job, then I will keep so-and-so amount of fasts, or I will donate so-and-so amount to charity, then in such case, when the condition is fulfilled [i.e. it actually happens], in other words, the ill person becomes well, or the son returns from the foreign country, or someone finds a job, then it is a must that such person keeps that many fasts or donates that much amount to charity. It can't be that such person doesn't do so and gives fidyah [expiation] in its place.

[Bahār-e-Sharī'at, vol 1, part 9, pg 314]

The charitable donation should be given at the end of the month, and if it has not been given for whatever reason, then it can be given at any time during one's lifetime.

والله تعالى اعلم ورسوله اعلم صلى الله عليه وآله وسلم
كتبه ابو الحسن محمد قاسم ضياء قادري

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri

Translated by Haider Ali